



دینار کا بند ِ لاک ِ و، درم کا بند ِ لاک ِ و، نقشہ ِ دار ریشمی کپڑے کا بند ِ لاک ِ و، مخملی چادر کا بند ِ لاک ِ و، جسد ِ دیا گیا تو خوش اور نہیں دیا گیا تو ناراض ِ ایسا آدمی ِ لاک ِ و نامراد ِ و اور اگر اس ِ کانٹا لگا، تو کوئی نکالنے والا نہ ملا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
"دینار کا بند ِ لاک ِ و، درم کا بند ِ لاک ِ و، نقشہ ِ دار ریشمی کپڑے کا بند ِ لاک ِ و، مخملی چادر کا
بند ِ لاک ِ و، جسد ِ دیا گیا تو خوش اور نہیں دیا گیا تو ناراض ِ ایسا آدمی ِ لاک ِ و نامراد ِ و اور اگر اس
کانٹا لگا، تو کوئی نکالنے والا نہ ملا ِ ایسے بند ِ و کے لیے جنت کا مزد ہے، جو اللہ کے راستے میں گھوڑے کی
لگام تھام کر کھڑا ہو اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور پاؤں غبار آلود ہوں اگر اس پر داری
میں لگا دیا جائے تو اسی میں لگا رہے اور اگر فوج کے پچھلے حصے میں رکھ دیا جائے تو وہیں رہ جائے اگر
اجازت طلب کرے تو اسے اجازت نہ ملے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے"
[صحیح] [امام بخاری نے اسی کے مثل روایت کی ہے]

اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی سوچ کی معراج، منتہائے
علم اور پہلا اور آخری مقصد دنیا ہوتی ہے ساتھ ہی یہ کہ اس طرح کے لوگوں کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے
اس قسم کی لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے شدید حریص ہوتے ہیں اگر دنیا مل گئی تو خوش اور
نہیں ملی تو ناراض نہ جائے و منصب کی طلب ہوتی ہے، نہ شہرت کی تمنا ان کے ہر نیک کام کے پیچھے اللہ اور اس
کے رسول کی اطاعت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دکھاوے سے مطلب
نہیں رکھتے جہاں رکھ دیے جائیں اسی پر راضی اور خوش ِ ایسے لوگ، لوگوں کے سامنے بے وقعت ہوتے ہیں اور
عہدے و منصب والے لوگوں سے دور رہتے ہیں اگر ان کے پاس داخل ہونے کی اجازت مانگیں، تو اجازت نہ ملے اور
ان کے پاس کسی کی سفارش کریں، تو سفارش قبول نہ کی جائے لیکن ان کا ٹھکانہ جنت ہے جو ایک بہترین
بدلہ ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5949>